

امت کی یکجہتی و اتحاد

آج جدھر دیکھو ایک نیا فتنہ بڑپہ ہے ہر طرف ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنایا ہوا ہے جس کی بنیادی وجہ قرآن سے کوسوں دوری ہے منافقت کی انتہا ہے پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔

حکم کسی کا نہیں بجز اللہ کے۔ جب لوگوں نے فرمایش کی کہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا کم اس میں کوئی تبدیلی کروا دو تو وہی آگئی کہ کہدو کہ یہ میرے اختیار میں نہیں کہ فرمائی پرگرام لا کر دوں کیونکہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔

آج دنیا بھر میں مسلمانوں کا سفایہ کیا جا رہا ہے۔ بس کوئی بہانہ مل جائے ورنہ یہ خود کوئی بہانہ پیدا کر لینگے اور پھر اس کے بہانے سفایہ کریں گے۔ یہ سب ہونے کے باوجود ہماری آنکھیں اس طرح سے بند ہیں جیسے ایک مردہ۔ آج مسلمان ڈیڑھ اینٹ کی مسجد میں بٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کا تو فرمان ہے کہ جو فرقوں میں بٹ گئے انکا اسلام میں کوئی حصہ نہیں وہ مسلمان نہیں خواہ کتنا ہی دعویٰ کریں انکا دعویٰ جھوٹا اور اللہ کو نا پسند ہے۔ فرقوں میں بٹنے سے قوت بہت کمزور پڑ جاتی ہے اور شیطان اس سے بہت فائدہ اٹھاتا ہے۔

آج چاند کا مسلہ ہو یا کوئی اور ہر بات میں فرقہ بازی ہے اور اسکی بنیادی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ اللہ نے تو صاف صاف بتا دیا ہے کہ چاند حج کی تاریخ مقرر کرنے کے لئے ہے اور حج تو صرف اور صرف مکہ میں ہوتا ہے اور چاند بھی صرف مکہ کے مطابق ہے تمام دنیا کے لئے ہے۔

آئے ہم سب مل کر اللہ کے گھر کعبہ کے مطابق امت کی یکجہتی کے ساتھ ملکر رمضان و عید مناتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکات، حج و عمرہ غرض ہر عبادات قرآن کی روشنی میں یکجہتی کے ساتھ کی جائے۔

Please join & invite others: mail+subscribe@globalrightpath.com

